

Parcha Bafi or Libas Ka Taaruf

Sr	Questions	Answers Choice
1	کپڑا بد نما لگنے لگتا ہے؟	A. Dills کی وجہ سے B. Pills کی وجہ سے C. Rills کی وجہ سے D. Bills کی وجہ سے
2	گہر سے باہر غلاظت کو دور کرنے کے کتے طریقے ہیں:	A. چار B. تین C. دو D. پانچ
3	ریشم کا کپڑا کس پھل کے درخت پر پایا جاتا ہے؟	A. شہتوت B. آم C. انگور D. سیب
4	دنیا کا سب سے قدیم ریشم ہے	A. کپاس B. لینن C. اوننی D. ریشم
5	لباس سے مراد سے تیار کردا کپڑوں سے ہے	A. ریشم B. کٹن C. ریشوں D. اون
6	-انسانی جسم کرتا رہتا ہے	A. فارغ B. مسلسل کام C. حرکت D. کچھ بھی نہیں
7	ریشوں کی شناخت کی جاسکتی ہے	A. جلانے کے عمل سے B. خوردبین سے C. کیمیائی عمل سے D. یہ تمام
8	پارچہ بافی لفظ ہے	A. یونانی B. لاطینی C. اردو D. انگریزی
9	آرٹ کے اصولوں کو اپنا کر	A. خوبصورتی پیدا کی جاسکتی ہے B. چیزوں کو بدنما کیا جاسکتا ہے C. آرام کی کیفیت پیدا کی جاسکتی ہے D. کوئی فرق نہیں پڑتا
10	ریشم'ارے آن اور پولی ایسٹر کپڑوں کے ریشے کس شکل میں ہوتے ہیں؟	A. دھاگے کی B. تار کی C. روٹی کی D. اون کی
11	ایک گرام کار بوٹائیڈریٹ والی غذا سے حاصل ہوتی ہے	A. حرارے 3 B. حرارے 4 C. حرارے 5 D. حرارے 6
12	غذائی توانائی کی اکائی ہے	A. جول B. واٹ C. حرارے D. کلو گرام
13	جسم کے تمام اعضاء کی صفائی کہلاتی ہے	A. ماحولیاتی صفائی B. ذاتی صفائی C. آبی صفائی D. زمینی صفائی
14	جسم میں آئرن کی کمی سے مرض لاحق ہو جاتا ہے	A. رکٹس B. قلت خون (انیمیا) C. سکروی D. شت کوری
15	ایک گرام چکنائی فراہم کرتی ہے	A. حرارے 3 B. حرارے 4 C. حرارے 5 D. حرارے 9

16	ہمیں ایسی غذاؤں کی ضروریات ہوتی ہے جس میں مقدار شامل ہو مناسب	A. پروٹین، چکنائی کی B. کاربوہائیڈریٹ، وٹامن کی C. نمکیات، پانی کی D. مذکورہ تمام
17	پاکستان میں اونی کھڑا تیار کیا جاتا ہے	A. کراچی اور بنوں B. ہرنائی اور لارنس پور C. پہلے دونوں D. لاہور اور کراچی
18	وٹا من اے کی کمی سے مرض لاحق ہو جاتا ہے	A. شب کوری B. رکتس C. سکروی D. بیری بیری
19	Flax Plant سے کون سا ریشہ حاصل ہوتا ہے؟	A. سوتی B. اونی C. لینن D. رے آن
20	پارچہ ہانی " کے معنی ہیں"	A. بننا B. سینا C. پرونا D. کاتنا